

India offers support for Africa to fight the Omicron variant

November 29, 2021

ہندوستان کی جانب سے کورونا کی نئی شکل اومیکرون سے لڑنے کے لیے افریقہ کو تعاون کی پیشکش

29 نومبر، 2021

ہم نے کووڈ-19 کی ایک نئی قسم اومیکرون کے ظہور کو نوٹ کیا ہے۔ ہم ان ممالک کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، خاص طور پر افریقہ میں، جو اب تک اومیکرون سے متاثر ہوئے ہیں۔

حکومت ہند اومیکرون ویرینٹ سے نمٹنے کے لیے بشمول میڈ ان انڈیا ویکسینز کی فراہمی کے افریقہ میں متاثرہ ممالک کی مدد کے لیے تیار ہے۔ سپلائی کوویکس کے ذریعے یا دو طرفہ طور پر کی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں، حکومت نے کوویکس کی طرف سے اب تک افریقی ممالک جیسے ملاوی، ایتھوپیا، زامبیا، موزمبیق، گنی اور لیسوتھو کو کوویشیلڈ ویکسینز کی فراہمی کے لیے جاری کیے گئے تمام احکامات کو کلیئر کر دیا ہے۔ ہم نے بوٹسوانا کو کوویکسین کی سپلائی بھی کلیئر کر دی ہے۔ دو طرفہ طور پر یا کوویکس کے ذریعے پیش کردہ کسی بھی نئی ضرورت پر جلد غور کیا جائے گا۔

بھارت ضروری جان بچانے والی ادویات، ٹیسٹ کٹس، دستانے، پی پی ای کٹس اور طبی آلات جیسے وینٹی لیٹرز کی فراہمی کے لیے بھی تیار ہے۔ ہندوستانی ادارے اپنے افریقی ہم منصبوں کے ساتھ جینومک سرویلنس اور وائرس کی خصوصیت سے متعلق تحقیقی کام میں تعاون پر غور کریں گے۔

[نوٹ: ہندوستان نے اب تک افریقہ کے 41 ممالک کو میڈ ان انڈیا ویکسین کی 25 ملین سے زیادہ خوراکیں فراہم کی ہیں، جن میں 16 ممالک کو تقریباً 1 ملین خوراکیں بطور گرانٹ اور کوویکس سہولت کے تحت 33 ممالک کو 16 ملین سے زیادہ خوراکیں فراہم کی ہیں۔]

نئی دہلی

29 نومبر، 2021

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.